

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑوسی برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے ٹوٹ ہیں، دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے۔ اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت

داری کے لیے افغان تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

\*\*\*\*\*

2019

Pakistan is determined for the <sup>establishment of</sup> peace in Afghanistan as it is ~~very~~ crucial for Pakistan. In context of history, Pakistan and Afghanistan, ~~are~~ related historically, culturally and linguistically. Neighbour Islamic countries, ~~are~~ related historically, culturally and linguistically.

These relations are very strong as both countries depend on each other and they can not survive separately.

Separate. (Pakistan's stance has been

that there should be a political solution for the Afghan issue) (since the

very first day). China also supports this stance. For this, China <sup>has</sup> said

that solution for Afghan issues is only possible through peace talks under Afghan leadership. Pakistan

and China will play their

satisfactory  
6/10

role  
through  
relations.

~~for~~ to  
peace

Solve  
talks

Afghan  
for

issues  
Strategic